

## Lesson # 4 2017

A #	Juz # 1	سورة البقرة (2)	Ayats 8-16	S #
	English meaning	Urdu meaning	Arabic words	
8	(are) from/ among	لوگ	النَّاسُ	1
	Who (he) says	جو کہتے ہیں	مَنْ يَقُولُ	2
	We believed	ہم ایمان لاتے	آمَنَّا	3
9	They deceive	دھوکہ دینے ہیں	يُخَادِعُونَ	4
	Not	نہیں	مَا	5
	Except	مگر	إِلَّا	6
	Themselves	اپنے آپ	أَنْفُسَهُمْ	7
	Not they perceive	نہیں وہ سمجھتے	لَا يَشْعُرُونَ	8
10	A (big) disease	بیماری	مَرَضٌ	9
	So(he) increased them	سو بڑھا دیا انکو	فَزَادَهُمْ	10
	A painful	دردناک	أَلِيمٌ	11
	They were (used to )	تھے وہ	كَانُوا	12
	They lie	جھوٹ بولتے	يَكْذِبُونَ	13
11	When (it) was said	جب کہا جاتا ہے	إِذَا قِيلَ	14
	Don't (you all) do mischief	مت فساد پھیلاؤ	تَفْسِدُوا	15
	In the Earth	زمین میں	فِي الْأَرْضِ	16
	They said	وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا	قَالُوا	17

	Indeed (not but)	صرف	إِنَّمَا	18
	We	ہم	نَحْنُ	19
	(are) ones who make peace	اصلاح کرنے والے	مُصْلِحُونَ	20
12	Beware !	سن رکھو	الَّا	21

	(are)those who do mischief	فساد کرنے والے	الْمُفْسِدُونَ	22
	But	لیکن	لَكِنْ	23
13	(you all) believe	ایمان لاو	آمَنُوا	24
	Just as like	جیسے	كَمَا	25
	Should we believe	کیا ہم ایمان لائیں	أَنُؤْمِنُ	26
	The foolish ones	بیوقوف	السُّفَهَاءُ	27
	(do)not they know	وہ نہیں جانتے	لَايَعْلَمُونَ	28
14	When they met	جب وہ ملتے ہیں	إِذَا لَقُوا	29
	They were alone	اکیلے ہوتے ہیں	خَلَوْا	30
	Their devils	شیطان کی جمع	شَيَاطِينِ	31
	(are) with you(all)	ساتھ تمہارے	مَعَكُمْ	32
	(are) one who mock	مذاق کرنے والے	مُسْتَهْزِئُونَ	33
15	(he) extend them	بڑھاتا ہے انکو	يَمُدُّهُمْ	34
	Their crossing limits	سرکشی انکی	طَغْيَانِهِمْ	35
	They wander blindly	وہ اندھے ہو رہے ہیں	يَعْمَهُونَ	36
16	They purchased	خریدا، مول لیا	اشْتَرَوْا	37
	The misguidance	گمراہی	الضَّلَالَةَ	38
	So not(it) gained /	پس فائدہ نہ دیا	فَمَا رِبِحَتْ	39

	profited			
	Their trade	تجارت انکی	تِجَارَتُهُمْ	40
	(are) ones who obtain guidance	ہدایت پانے والے	مُهْتَدِينَ	41

Qurannation.com